



سوال

میرے والد کی شہریت شام کی ہے، اور والدہ کی متحدہ عرب امارات کی، ہم امارات ہی میں مقیم ہیں، امارات کی حکومت اماراتی مطلقہ خاتون کو سہولیات پیش کرتی ہے، اور مکان کی تعمیر کیلئے آسان قسطوں پر قرض بھی دیتی ہے، چنانچہ اگر میرا والد میری والدہ کو عدالت میں جا کر طلاق کی نیت کے بغیر صرف معاشی سہولیات اور مکان کی تعمیر کیلئے قرضہ کے حصول کی خاطر طلاق دے دے تو کیا یہ حلال ہے؟ اس لئے کہ ہمارا بہت بڑا خاندان ہے، میرے والد کی دو بیویاں ہیں اور ہم 20 افراد ہیں میرے والد کی نیت طلاق کی نہیں ہے بلکہ سہولیات کا حصول مقصود ہے، اگر اس انداز سے طلاق دینا حلال نہ ہوگا تو ہمارے لئے مکان کے حصول کی خاطر میرے والد کو قربانی دینی پڑے گی اور وہ حقیقت میں طلاق دے دیگا، کیونکہ زندگی بہت تنگی میں گزر رہی ہے۔ آپ کا شکریہ اور آپ کے تفصیلی جواب کا انتظار رہے گا

جواب

بہم قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دور و سلام ہوں اللہ کے رسول پر، بعد ازاں:

اول:

اللہ تعالیٰ نے عقد نکاح ختم کرنے کیلئے طلاق کی اجازت دی ہے، جبکہ عقد نکاح بہت ہی مضبوط معاہدہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وَأَخْذُنَا مِنْكُمْ پَيْثَا قًا غَلِيظًا) "ترجمہ: اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لے لیا ہے" سورہ النساء/21

چنانچہ کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ مذکورہ ہدف کے علاوہ کسی اور ہدف کیلئے طلاق کا استعمال کرے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"صاحب شریعت نے آیات الہی کو کھیل تماشا بنانے سے روکا ہے، اسی لئے نکاح میں صرف شرعی مقاصد کے حصول کیلئے بات کرنے کی اجازت دی گئی، اور عقد نکاح کو بطور ڈھال استعمال یا مذاق کا نشانہ بنانے سے روکا گیا، بالکل اسی طرح حلالہ سے بھی منع فرمایا، ان سب کی دلیل فرمان باری تعالیٰ: (ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا) ترجمہ: "اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ" سورہ بقرہ/231۔

اسی طرح فرمان رسالت (لوگوں کو کیا ہو گیا ہے! کہ حدود اللہ کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے! اور اسکی آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں!) اور کہتے پھرتے ہیں [تجھے طلاق دی اور رجوع کیا، تجھے طلاق دی اور رجوع کیا] [احمدیث] چنانچہ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ اس [نکاح] کو تماشا بنانا حرام ہے"

ماخوذ از: "الفتاویٰ الکبریٰ" (65/6)

مذکورہ بالا حدیث ابن ماجہ (2017) میں ہے جسے یوصیری نے زوائد میں حسن کہا ہے، اور البانی نے ضعیف سنن ابن ماجہ میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

چنانچہ آپ کے والد صرف ظاہری طور پر طلاق نہیں دے سکتے کہ حقیقت میں طلاق دینا مقصود ہی نہیں ہے۔

[دوسری وجہ] یہ بھی ہے کہ مذکورہ صورت میں ناجائز طریقے سے مال ہزپ کرنے کی حیلہ بازی بھی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ سہولیات حقیقی مطلقہ کو ہی دی جاتی ہیں، جس کے لئے حیلہ بازی کرنا حرام ہے۔



دوم :

اگر طلاق کے صریح لفظ کے ساتھ طلاق دی جائے مثلاً کوئی کہے : "تم مطلقہ ہو" یا "تمہیں طلاق" یا پھر "میں طلاق دیتا ہوں" وغیرہ تو طلاق ہو جائے گی چاہے اسکی طلاق دینے کی نیت نہ ہو۔

اور اگر زبان سے تلفظ کے بغیر صرف تحریری شکل میں طلاق ہو تو اصل یہی ہے کہ طلاق نیت سے ہی ہوگی، لیکن اگر تحریری طلاق عدالت میں جا کر ہو تو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ چاہے نیت نہ بھی ہو طلاق ہو جائے گی۔

مزید تفصیل کیلئے سوال نمبر (72291) بھی ملاحظہ کریں۔

اور اگر آپکے والد خراج برداشت نہیں کر سکتے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حقیقی طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ بیوی بچوں کو سہولیات مل سکیں تو یہ انکی مرضی ہے، لیکن خیال رہے کہ طلاق دینے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان وراثت وغیرہ سب ختم ہو جائی گی۔

اور [ہماری] نصیحت یہ ہے کہ معاشی مسائل حل کرنے کیلئے کسی اور راستہ کو تلاش کرے، تو یہ طلاق سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کیلئے آسانی اور تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا فرمادے۔

واللہ اعلم.

الاسلام سوال و جواب

171398